

ARABIC VERB CONJUGATOR

نَزَلَ
يُنزِلُ

Descend

VERBAL NOUN (MASDAR)

نُزُولًا

اترنا / نازل ہونا

Root: ن ز ل

PAST	نَزَلَ وہ اترنا / نازل ہوا	PRESENT	يُنزِلُ وہ اترتا ہے / نازل ہوتا ہے	MASDAR	نُزُولًا اترنا / نازل ہونا	ISM FA'IL	نَازِلٌ اترنے والا / نازل ہونے والا	ISM MAFOOL	مَنْزِلٌ منزل / اترنے کی جگہ / گھر
------	-------------------------------	---------	---------------------------------------	--------	-------------------------------	-----------	--	------------	---------------------------------------

PAST TENSE

الماضي

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	نَزَلَ	وہ (ایک مرد)	اس ایک مرد نے اترنا / نازل ہوا
هُمَا	نَزَلَا	وہ (دو مرد)	ان دو مردوں نے اترے / نازل ہوئے
هُمْ	نَزَلُوا	وہ (سب مرد)	ان سب مردوں نے اترے / نازل ہوئے
هِيَ	نَزَلَتْ	وہ (ایک عورت)	اس ایک عورت نے اتری / نازل ہوئی
هُمَا	نَزَلَتَا	وہ (دو عورتیں)	ان دو عورتوں نے اتریں / نازل ہوئیں
هِنَّ	نَزَلْنَ	وہ (سب عورتیں)	ان سب عورتوں نے اتریں / نازل ہوئیں
أَنْتَ	نَزَلْتَ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد نے اترے / نازل ہوئے
أَنْتِمَا	نَزَلْتُمَا	تم (دو مرد/عورتیں)	تم دونوں نے اترے / نازل ہوئے
أَنْتُمْ	نَزَلْتُمْ	تم (سب مرد)	تم سب مردوں نے اترے / نازل ہوئے
أَنْتِ	نَزَلْتِ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت نے اتری / نازل ہوئی
أَنْتُمَا	نَزَلْتُمَا	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتوں نے اتریں / نازل ہوئیں
أَنْتُنَّ	نَزَلْتُنَّ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتوں نے اتریں / نازل ہوئیں
أَنَا	نَزَلْتُ	میں	میں اترنا / اتری / نازل ہوا / ہوئی
نَحْنُ	نَزَلْنَا	ہم	ہم اترے / نازل ہوئے

PRESENT / FUTURE

المضارع

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	يُنزِلُ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد اترتا ہے / نازل ہوتا ہے
هُمَا	يُنزِلَانِ	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد اترتے ہیں
هُمْ	يُنزِلُونَ	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد اترتے ہیں

ترجمہ	ضمیر	الفعل	الضمیر
وہ ایک عورت اترتی ہے	وہ (ایک عورت)	تَنْزِلُ	هِيَ
وہ دو عورتیں اترتی ہیں	وہ (دو عورتیں)	تَنْزِلَانِ	هُمَا
وہ سب عورتیں اترتی ہیں	وہ (سب عورتیں)	يَنْزِلْنَ	هُنَّ
تم ایک مرد اترتے ہو	تم (ایک مرد)	تَنْزِلُ	أَنْتَ
تم دونوں اترتے ہو	تم (دو مرد/عورتیں)	تَنْزِلَانِ	أَنْتُمَا
تم سب مرد اترتے ہو	تم (سب مرد)	تَنْزِلُونَ	أَنْتُمْ
تم ایک عورت اترتی ہو	تم (ایک عورت)	تَنْزِلِينَ	أَنْتِ
تم دونوں عورتیں اترتی ہو	تم (دو عورتیں)	تَنْزِلَانِ	أَنْتُمَا
تم سب عورتیں اترتی ہو	تم (سب عورتیں)	تَنْزِلْنَ	أَنْتُنَّ
میں اترتا / اترتی ہوں / نازل ہوتا / ہوتی ہوں	میں	أَنْزِلُ	أَنَا
ہم اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں	ہم	نَنْزِلُ	نَحْنُ

IMPERATIVE

الأمر والنهي

POSITIVE		الأمر	NEGATIVE		النهي
الضمير	الفعل	ترجمہ	الضمير	الفعل	ترجمہ
أَنْتَ	أَنْزِلْ	تم اترو (مذکر واحد)	أَنْتَ	لَا تَنْزِلْ	تم مت اترو (مذکر واحد)
أَنْتُمَا	أَنْزِلَا	تم دونوں اترو	أَنْتُمَا	لَا تَنْزِلَا	تم دونوں مت اترو
أَنْتُمْ	أَنْزِلُوا	تم سب اترو (مذکر جمع)	أَنْتُمْ	لَا تَنْزِلُوا	تم سب مت اترو (مذکر جمع)
أَنْتِ	أَنْزِلِي	تم اترو (مؤنث واحد)	أَنْتِ	لَا تَنْزِلِي	تم مت اترو (مؤنث واحد)
أَنْتُمَا	أَنْزِلَا	تم دونوں اترو (مؤنث)	أَنْتُمَا	لَا تَنْزِلَا	تم دونوں مت اترو (مؤنث)
أَنْتُنَّ	أَنْزِلْنَ	تم سب اترو (مؤنث جمع)	أَنْتُنَّ	لَا تَنْزِلْنَ	تم سب مت اترو (مؤنث جمع)

المجدول الإسنادي — الماضي

RELATIONAL MAPPING — PAST

هو		وه (ایک مرد)
نِي	تَزَلَّنِي	اس نے مجھے اترا / نازل ہوا
نَا	تَزَلَّنَا	اس نے ہمیں اترا / نازل ہوا
كَ	تَزَلَّكَ	اس نے تمہیں (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
كُمَا	تَزَلَّكُمَا	اس نے تم دونوں کو اترا / نازل ہوا
كُم	تَزَلَّكُمْ	اس نے تم سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
كِ	تَزَلَّكِ	اس نے تمہیں (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
كُنَّ	تَزَلَّكُنَّ	اس نے تم سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا
هُ	تَزَلَّهُ	اس نے اسے (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
هُمَا	تَزَلَّهُمَا	اس نے ان دونوں کو اترا / نازل ہوا
هُمْ	تَزَلَّهُمْ	اس نے ان سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
هَا	تَزَلَّهَا	اس نے اسے (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
هُمَا	تَزَلَّهُمَا	اس نے ان دونوں عورتوں کو اترا / نازل ہوا
هِنَّ	تَزَلَّهُنَّ	اس نے ان سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا

ہیَا (مذکر)		وه (دو مرد)
نِي	تَزَلَّانِي	ان دو مردوں نے مجھے اترا / نازل ہوا
نَا	تَزَلَّانَا	ان دو مردوں نے ہمیں اترا / نازل ہوا
كَ	تَزَلَّكَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
كُمَا	تَزَلَّكُمَا	ان دو مردوں نے تم دونوں کو اترا / نازل ہوا
كُم	تَزَلَّكُمْ	ان دو مردوں نے تم سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
كِ	تَزَلَّكِ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
كُنَّ	تَزَلَّكُنَّ	ان دو مردوں نے تم سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا
هُ	تَزَلَّاهُ	ان دو مردوں نے اسے (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
هُمَا	تَزَلَّاهُمَا	ان دو مردوں نے ان دونوں کو اترا / نازل ہوا
هُمْ	تَزَلَّاهُمْ	ان دو مردوں نے ان سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
هَا	تَزَلَّاهَا	ان دو مردوں نے اسے (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
هِنَّ	تَزَلَّاهُنَّ	ان دو مردوں نے ان سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا

ہم	وہ (سب مرد)
نِي	ان سب مردوں نے مجھے اترا / نازل ہوا
نَا	ان سب مردوں نے ہمیں اترا / نازل ہوا
كَ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
كَمَا	ان سب مردوں نے تم دونوں کو اترا / نازل ہوا
كُم	ان سب مردوں نے تم سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
كَ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
كُنَّ	ان سب مردوں نے تم سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا
هُ	ان سب مردوں نے اسے (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
هُمَا	ان سب مردوں نے ان دونوں کو اترا / نازل ہوا
هُمْ	ان سب مردوں نے ان سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
هَا	ان سب مردوں نے اسے (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
هِنَّ	ان سب مردوں نے ان سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا

ہی	وہ (ایک عورت)
نِي	اس ایک عورت نے مجھے اترا / نازل ہوا
نَا	اس ایک عورت نے ہمیں اترا / نازل ہوا
كَ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
كَمَا	اس ایک عورت نے تم دونوں کو اترا / نازل ہوا
كُم	اس ایک عورت نے تم سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
كَ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
كُنَّ	اس ایک عورت نے تم سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا
هُ	اس ایک عورت نے اسے (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
هُمَا	اس ایک عورت نے ان دونوں کو اترا / نازل ہوا
هُمْ	اس ایک عورت نے ان سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
هَا	اس ایک عورت نے اسے (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
هِنَّ	اس ایک عورت نے ان سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	تَزَلَّتَنِی	ان دو عورتوں نے مجھے اترا / نازل ہوا
نَا	تَزَلَّتَانَا	ان دو عورتوں نے ہمیں اترا / نازل ہوا
ک	تَزَلَّتَاکَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
کَا	تَزَلَّتَاکُمَا	ان دو عورتوں نے تم دونوں کو اترا / نازل ہوا
کُم	تَزَلَّتَاکُمْ	ان دو عورتوں نے تم سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
ک	تَزَلَّتَاکَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
کَنَّ	تَزَلَّتَاکُنَّ	ان دو عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا
ہ	تَزَلَّتَاهُ	ان دو عورتوں نے اسے (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
ہمَا	تَزَلَّتَاهُمَا	ان دو عورتوں نے ان دونوں کو اترا / نازل ہوا
ہم	تَزَلَّتَاهُمْ	ان دو عورتوں نے ان سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
ہَا	تَزَلَّتَاهَا	ان دو عورتوں نے اسے (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
ہنَّ	تَزَلَّتَاهُنَّ	ان دو عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	تَزَلَّتَنِی	ان سب عورتوں نے مجھے اترا / نازل ہوا
نَا	تَزَلَّتَانَا	ان سب عورتوں نے ہمیں اترا / نازل ہوا
ک	تَزَلَّتَاکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
کَا	تَزَلَّتَاکُمَا	ان سب عورتوں نے تم دونوں کو اترا / نازل ہوا
کُم	تَزَلَّتَاکُمْ	ان سب عورتوں نے تم سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
ک	تَزَلَّتَاکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
کَنَّ	تَزَلَّتَاکُنَّ	ان سب عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا
ہ	تَزَلَّتَاهُ	ان سب عورتوں نے اسے (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
ہمَا	تَزَلَّتَاهُمَا	ان سب عورتوں نے ان دونوں کو اترا / نازل ہوا
ہم	تَزَلَّتَاهُمْ	ان سب عورتوں نے ان سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
ہَا	تَزَلَّتَاهَا	ان سب عورتوں نے اسے (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
ہنَّ	تَزَلَّتَاهُنَّ	ان سب عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا

تم (ایک مرد)	أَنْتَ
تم (ایک مرد) نے مجھے اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَنِي
تم (ایک مرد) نے ہمیں اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَنَا
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک مرد) اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَهُ
تم (ایک مرد) نے ان دونوں کو اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَهُمَا
تم (ایک مرد) نے ان سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَهُمْ
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک عورت) اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَهَا
تم (ایک مرد) نے ان سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا	نَزَلْتِهِنَّ

تم دونوں (مرد/عورت)	أَنْتُمَا
تم دونوں نے مجھے اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَانِي
تم دونوں نے ہمیں اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَانَا
تم دونوں نے اسے (ایک مرد) اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَاهُ
تم دونوں نے ان دونوں کو اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَاهُمَا
تم دونوں نے ان سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَاهُمْ
تم دونوں نے اسے (ایک عورت) اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَاهَا
تم دونوں نے ان سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَاهُنَّ

تم سب (مرد)	أَنْتُمْ
تم سب (مردوں) نے مجھے اترا / نازل ہوا	نَزَلْتُونِي
تم سب (مردوں) نے ہمیں اترا / نازل ہوا	نَزَلْتُونَا
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک مرد) اترا / نازل ہوا	نَزَلْتُوهُ
تم سب (مردوں) نے ان دونوں کو اترا / نازل ہوا	نَزَلْتُوهُمَا
تم سب (مردوں) نے ان سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا	نَزَلْتُوهُمْ
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک عورت) اترا / نازل ہوا	نَزَلْتُوهَا
تم سب (مردوں) نے ان سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا	نَزَلْتُوهُنَّ

تم (ایک عورت)	أَنْتِ
تم (ایک عورت) نے مجھے اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَنِي
تم (ایک عورت) نے ہمیں اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَنَا
تم (ایک عورت) نے اسے (ایک مرد) اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَهُ
تم (ایک عورت) نے ان دونوں کو اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَهُمَا
تم (ایک عورت) نے ان سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَهُمْ
تم (ایک عورت) نے اسے (ایک عورت) اترا / نازل ہوا	نَزَلْتَهَا
تم (ایک عورت) نے ان سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا	نَزَلْتِهِنَّ

انتن	تم سب (عورتیں)
نِي	تم سب (عورتوں) نے مجھے اترا / نازل ہوا
نَا	تم سب (عورتوں) نے ہمیں اترا / نازل ہوا
هُ	تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
هُمَا	تم سب (عورتوں) نے ان دونوں کو اترا / نازل ہوا
هُمْ	تم سب (عورتوں) نے ان سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
هَا	تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
هِنَّ	تم سب (عورتوں) نے ان سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا

اننا	میں
كَ	میں نے تمہیں (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
كُنَا	میں نے تم دونوں کو اترا / نازل ہوا
كُمُ	میں نے تم سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
كَ	میں نے تمہیں (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
كُنَّ	میں نے تم سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا
هُ	میں نے اسے (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
هُمَا	میں نے ان دونوں کو اترا / نازل ہوا
هُمْ	میں نے ان سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
هَا	میں نے اسے (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
هِنَّ	میں نے ان سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا

نَحْنُ	ہم
كَ	ہم نے تمہیں (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
كُنَا	ہم نے تم دونوں کو اترا / نازل ہوا
كُمُ	ہم نے تم سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
كَ	ہم نے تمہیں (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
كُنَّ	ہم نے تم سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا
هُ	ہم نے اسے (ایک مرد) اترا / نازل ہوا
هُمَا	ہم نے ان دونوں کو اترا / نازل ہوا
هُمْ	ہم نے ان سب (مردوں) کو اترا / نازل ہوا
هَا	ہم نے اسے (ایک عورت) اترا / نازل ہوا
هِنَّ	ہم نے ان سب (عورتوں) کو اترا / نازل ہوا

المجدول الإسنادي — المضارع

RELATIONAL MAPPING — PRESENT

هو		وه (ایک مرد)
نِي	يَنْزِلُنِي	وہ مجھے اترتا ہے / نازل ہوتا ہے
نَا	يَنْزِلُنَا	وہ ہمیں اترتا ہے / نازل ہوتا ہے
كَ	يَنْزِلُكَ	وہ تمہیں (ایک مرد) اترتا ہے / نازل ہوتا ہے
كُمَا	يَنْزِلُكُمَا	وہ تم دونوں کو اترتا ہے / نازل ہوتا ہے
كُم	يَنْزِلُكُمْ	وہ تم سب (مردوں) کو اترتا ہے / نازل ہوتا ہے
كَ	يَنْزِلُكَ	وہ تمہیں (ایک عورت) اترتا ہے / نازل ہوتا ہے
كُنَّ	يَنْزِلُنَّ	وہ تم سب (عورتوں) کو اترتا ہے / نازل ہوتا ہے
هُ	يَنْزِلُهُ	وہ اسے (ایک مرد) اترتا ہے / نازل ہوتا ہے
هُمَا	يَنْزِلُهُمَا	وہ ان دونوں کو اترتا ہے / نازل ہوتا ہے
هُمْ	يَنْزِلُهُمْ	وہ ان سب (مردوں) کو اترتا ہے / نازل ہوتا ہے
هَا	يَنْزِلُهَا	وہ اسے (ایک عورت) اترتا ہے / نازل ہوتا ہے
هُمَا	يَنْزِلُهُمَا	وہ ان دونوں عورتوں کو اترتا ہے / نازل ہوتا ہے
هِنَّ	يَنْزِلُهُنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کو اترتا ہے / نازل ہوتا ہے

ہما (مذکر)		وه (دو مرد)
نِي	يَنْزِلَانِي	وہ دو مرد مجھے اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
نَا	يَنْزِلَانَا	وہ دو مرد ہمیں اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كَ	يَنْزِلَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک مرد) اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كُمَا	يَنْزِلَاكُمَا	وہ دو مرد تم دونوں کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كُم	يَنْزِلَاكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كَ	يَنْزِلَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک عورت) اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كُنَّ	يَنْزِلَانَّ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هُ	يَنْزِلَاهُ	وہ دو مرد اسے (ایک مرد) اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هُمَا	يَنْزِلَاهُمَا	وہ دو مرد ان دونوں کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هُمْ	يَنْزِلَاهُمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هَا	يَنْزِلَاهَا	وہ دو مرد اسے (ایک عورت) اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هِنَّ	يَنْزِلَاهُنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں

هم		وہ (سب مرد)
نِي	يَنْزِلُونِي	وہ سب مرد مجھے اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
نَا	يَنْزِلُونَا	وہ سب مرد ہمیں اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كَ	يَنْزِلُوكَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک مرد) اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كَمَا	يَنْزِلُوكَمَا	وہ سب مرد تم دونوں کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كُمْ	يَنْزِلُوكُمْ	وہ سب مرد تم سب (مردوں) کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كَ	يَنْزِلُوكِ	وہ سب مرد تمہیں (ایک عورت) اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كُنَّ	يَنْزِلُوكُنَّ	وہ سب مرد تم سب (عورتوں) کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هُ	يَنْزِلُوهُ	وہ سب مرد اسے (ایک مرد) اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هُمَا	يَنْزِلُوهُمَا	وہ سب مرد ان دونوں کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هُمْ	يَنْزِلُوهُمْ	وہ سب مرد ان سب (مردوں) کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هَا	يَنْزِلُوهَا	وہ سب مرد اسے (ایک عورت) اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هِنَّ	يَنْزِلُوهِنَّ	وہ سب مرد ان سب (عورتوں) کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں

هي		وہ (ایک عورت)
نِي	تَنْزِلُونِي	وہ ایک عورت مجھے اترتی ہے / نازل ہوتی ہے
نَا	تَنْزِلُونَا	وہ ایک عورت ہمیں اترتی ہے / نازل ہوتی ہے
كَ	تَنْزِلُوكَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک مرد) اترتی ہے / نازل ہوتی ہے
كَمَا	تَنْزِلُوكَمَا	وہ ایک عورت تم دونوں کو اترتی ہے / نازل ہوتی ہے
كُمْ	تَنْزِلُوكُمْ	وہ ایک عورت تم سب (مردوں) کو اترتی ہے / نازل ہوتی ہے
كَ	تَنْزِلُوكِ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک عورت) اترتی ہے / نازل ہوتی ہے
كُنَّ	تَنْزِلُوكُنَّ	وہ ایک عورت تم سب (عورتوں) کو اترتی ہے / نازل ہوتی ہے
هُ	تَنْزِلُوهُ	وہ ایک عورت اسے (ایک مرد) اترتی ہے / نازل ہوتی ہے
هُمَا	تَنْزِلُوهُمَا	وہ ایک عورت ان دونوں کو اترتی ہے / نازل ہوتی ہے
هُمْ	تَنْزِلُوهُمْ	وہ ایک عورت ان سب (مردوں) کو اترتی ہے / نازل ہوتی ہے
هَا	تَنْزِلُوهَا	وہ ایک عورت اسے (ایک عورت) اترتی ہے / نازل ہوتی ہے
هِنَّ	تَنْزِلُوهِنَّ	وہ ایک عورت ان سب (عورتوں) کو اترتی ہے / نازل ہوتی ہے

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	تَزَلَانِی	وہ دو عورتیں مجھے اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
نَا	تَزَلَانَا	وہ دو عورتیں ہمیں اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
ک	تَزَلَاکَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک مرد) اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
کَا	تَزَلَاکَا	وہ دو عورتیں تم دونوں کو اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
کُم	تَزَلَاکُم	وہ دو عورتیں تم سب (مردوں) کو اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
کِ	تَزَلَاکِ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک عورت) اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
کُنَّ	تَزَلَاکُنَّ	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کو اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
ہ	تَزَلَاہُ	وہ دو عورتیں اسے (ایک مرد) اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
ہمَا	تَزَلَاہُمَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کو اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
ہُمْ	تَزَلَاہُمْ	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کو اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
ہَا	تَزَلَاہَا	وہ دو عورتیں اسے (ایک عورت) اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
ہُنَّ	تَزَلَاہُنَّ	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کو اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	یَنْزِلْنِی	وہ سب عورتیں مجھے اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
نَا	یَنْزِلْنَآ	وہ سب عورتیں ہمیں اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
ک	یَنْزِلْکَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک مرد) اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
کَا	یَنْزِلْکَا	وہ سب عورتیں تم دونوں کو اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
کُم	یَنْزِلْکُم	وہ سب عورتیں تم سب (مردوں) کو اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
کِ	یَنْزِلْکِ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک عورت) اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
کُنَّ	یَنْزِلْکُنَّ	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کو اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
ہ	یَنْزِلْہُ	وہ سب عورتیں اسے (ایک مرد) اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
ہمَا	یَنْزِلْہُمَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کو اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
ہُمْ	یَنْزِلْہُمْ	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کو اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
ہَا	یَنْزِلْہَا	وہ سب عورتیں اسے (ایک عورت) اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں
ہُنَّ	یَنْزِلْہُنَّ	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کو اترتی ہیں / نازل ہوتی ہیں

تم (ایک مرد)	أَنْتَ	تم دونوں (مرد/عورت)	أَنْتُمَا
تم (ایک مرد) مجھے اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	نِي	تم دونوں مجھے اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	نِي
تم (ایک مرد) ہمیں اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	نَا	تم دونوں ہمیں اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	نَا
تم (ایک مرد) اسے (ایک مرد) اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هُ	تم دونوں اسے (ایک مرد) اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هُ
تم (ایک مرد) ان دونوں کو اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هُمَا	تم دونوں ان دونوں کو اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هُمَا
تم (ایک مرد) ان سب (مردوں) کو اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هُمْ	تم دونوں ان سب (مردوں) کو اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هُمْ
تم (ایک مرد) اسے (ایک عورت) اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هَا	تم دونوں اسے (ایک عورت) اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هَا
تم (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کو اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هِنَّ	تم دونوں ان سب (عورتوں) کو اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هِنَّ

تم سب (مرد)	أَنْتُمْ	تم (ایک عورت)	أَنْتِ
تم سب (مرد) مجھے اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	نِي	تم (ایک عورت) مجھے اترتی ہو / نازل ہوتی ہو	نِي
تم سب (مرد) ہمیں اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	نَا	تم (ایک عورت) ہمیں اترتی ہو / نازل ہوتی ہو	نَا
تم سب (مرد) اسے (ایک مرد) اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هُ	تم (ایک عورت) اسے (ایک مرد) اترتی ہو / نازل ہوتی ہو	هُ
تم سب (مرد) ان دونوں کو اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هُمَا	تم (ایک عورت) ان دونوں کو اترتی ہو / نازل ہوتی ہو	هُمَا
تم سب (مرد) ان سب (مردوں) کو اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هُمْ	تم (ایک عورت) ان سب (مردوں) کو اترتی ہو / نازل ہوتی ہو	هُمْ
تم سب (مرد) اسے (ایک عورت) اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هَا	تم (ایک عورت) اسے (ایک عورت) اترتی ہو / نازل ہوتی ہو	هَا
تم سب (مرد) ان سب (عورتوں) کو اترتے ہو / نازل ہوتے ہو	هِنَّ	تم (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کو اترتی ہو / نازل ہوتی ہو	هِنَّ

انتن	تم سب (عورتیں)	اننا	میں
نِي	تم سب (عورتیں) مجھے اترتی ہو / نازل ہوتی	كَ	میں تمہیں (ایک مرد) اترتا / اترتی ہوں / نازل ہوتا / ہوتی ہوں
نَا	تم سب (عورتیں) ہمیں اترتی ہو / نازل ہوتی	كَمَا	میں تم دونوں کو اترتا / اترتی ہوں / نازل ہوتا / ہوتی ہوں
هُ	تم سب (عورتیں) اسے (ایک مرد) اترتی ہو / نازل ہوتی ہو	كُمُ	میں تم سب (مردوں) کو اترتا / اترتی ہوں / نازل ہوتا / ہوتی ہوں
هُمَا	تم سب (عورتیں) ان دونوں کو اترتی ہو / نازل ہوتی ہو	كِ	میں تمہیں (ایک عورت) اترتا / اترتی ہوں / نازل ہوتا / ہوتی ہوں
هُمْ	تم سب (عورتیں) ان سب (مردوں) کو اترتی ہو / نازل ہوتی ہو	كُنَّ	میں تم سب (عورتوں) کو اترتا / اترتی ہوں / نازل ہوتا / ہوتی ہوں
هَا	تم سب (عورتیں) اسے (ایک عورت) اترتی ہو / نازل ہوتی ہو	هُ	میں اسے (ایک مرد) اترتا / اترتی ہوں / نازل ہوتا / ہوتی ہوں
هُنَّ	تم سب (عورتیں) ان سب (عورتوں) کو اترتی ہو / نازل ہوتی ہو	هُمَا	میں ان دونوں کو اترتا / اترتی ہوں / نازل ہوتا / ہوتی ہوں
		هُمْ	میں ان سب (مردوں) کو اترتا / اترتی ہوں / نازل ہوتا / ہوتی ہوں
		هَا	میں اسے (ایک عورت) اترتا / اترتی ہوں / نازل ہوتا / ہوتی ہوں
		هُنَّ	میں ان سب (عورتوں) کو اترتا / اترتی ہوں / نازل ہوتا / ہوتی ہوں

نَحْنُ	ہم
كَ	ہم تمہیں (ایک مرد) اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كُمَا	ہم تم دونوں کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كُمُ	ہم تم سب (مردوں) کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كِ	ہم تمہیں (ایک عورت) اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
كُنَّ	ہم تم سب (عورتوں) کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هُ	ہم اسے (ایک مرد) اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هُمَا	ہم ان دونوں کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هُمْ	ہم ان سب (مردوں) کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هَا	ہم اسے (ایک عورت) اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں
هُنَّ	ہم ان سب (عورتوں) کو اترتے ہیں / نازل ہوتے ہیں

USAGE EXAMPLES — PAST

مثالیں — ماضی

I

أَنَا نَزَلْتُ مِنَ الطَّائِرَةِ وَبَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا عَلَى سَلَامَتِي وَنِعْمَةِ الْوَصُولِ.

میں ہوائی جہاز سے اترا اور اپنی سلامتی اور پہنچنے کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا۔

I descended from the airplane and prostrated to Allah in gratitude for my safety and the blessing of arrival.

We

نَحْنُ نَزَلْنَا عِنْدَ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ بِرِضَا وَتَسْلِيمٍ وَعَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ.

ہم اللہ کے قضا اور قدر کے آگے رضا اور تسلیم کے ساتھ جھکے اور جانا کہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔

We submitted to Allah's decree and destiny with acceptance and resignation, knowing that Allah knows and we do not.

You (m)

أَنْتَ نَزَلْتَ عِنْدَ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ تُقَدِّمْ هَوَاكَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ.

تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اللہ کے امر پر اپنی خواہش کو مقدم نہ کیا۔

You submitted to the ruling of Allah and His Messenger and did not prioritize your desires over Allah's command.

You (f)

أَنْتِ نَزَلْتِ عِنْدَ رَأْيِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاتَّبَعْتِ الصَّوَابَ بَعِيدًا عَنِ التَّعَصُّبِ.

تم نے اہل علم کی رائے کے سامنے سر جھکایا اور تعصب سے دور رہتے ہوئے حق کی پیروی کی۔

You yielded to the view of the scholars and followed what was correct, away from fanaticism.

He

هُوَ نَزَلَ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْوَحْيِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ ذَلِكَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ .

جبریل علیہ السلام وحی لے کر نبی ﷺ پر اترے اور وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھی۔

Jibreel, upon him be peace, descended with the revelation to the Prophet ﷺ and that was a mercy for all the worlds.

She

هِيَ نَزَلَتْ الرَّحْمَةُ مِنَ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ تَابُوا وَرَجَعُوا إِلَيْهِ صَادِقِينَ .
اللہ کی رحمت ان لوگوں پر نازل ہوئی جنہوں نے توبہ کی اور سچائی کے ساتھ اس کی طرف لوٹے۔

The mercy of Allah descended upon a people who repented and returned to Him sincerely.

They two

هُمَا نَزَلَا عِنْدَ مَنْزِلِ أَخِيهِمَا وَقَضِيَا لَيْلَتَهُمَا فِي ذِكْرِ اللَّهِ وَالْمُذَاكِرَةِ .

وہ دونوں اپنے بھائی کے گھر کے اور اپنی رات ذکر الہی اور مذاکرے میں گزاری۔

They two alighted at their brother's dwelling and spent their night in the remembrance of Allah and study.

They (m)

هُمْ نَزَلُوا عِنْدَ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُعَارِضُوا وَلَمْ يَتَلَاَعِبُوا بِأَحْكَامِ الدِّينِ .

انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور دین کے احکام میں کھلواڑ نہیں کیا۔

They submitted to the ruling of Allah and His Messenger and did not oppose or play games with the rulings of the religion.

You all (m)

أَنْتُمْ نَزَلْتُمْ ضُيُوفًا عَلَى أَخِي كَرِيمٍ فَأَكْرَمَكُمْ وَأَحْسَنَ ضِيَاغَتِكُمْ .
تم سب ایک کریم بھائی کے مہمان بن کر اترے تو اس نے تمہاری عزت کی اور خوب مہمان نوازی کی۔

You all alighted as guests at a generous brother's home and he honoured you and provided excellent hospitality.

They (f)

هُنَّ نَزَلْنَ عِنْدَ قَدْرِ اللَّهِ بَرِيضًا وَتَسْلِيمًا وَعَلِمْنَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُرِيدُ بِهِنَّ إِلَّا الْخَيْرَ .

وہ اللہ کی تقدیر کے سامنے رضا و تسلیم کے ساتھ جھکیں اور جانا کہ اللہ ان کے لیے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں چاہتا۔

They submitted to the decree of Allah with acceptance and resignation, knowing that Allah intends nothing but good for them.

USAGE EXAMPLES — PRESENT

مثالیں — مضارع

I

أَنَا أَنْزَلُ عِنْدَ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأُقَدِّمُ شَرَعَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ رَأْيٍ وَهُوَى .

میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکتا ہوں اور ہر رائے اور خواہش پر اللہ کے شریعت کو مقدم کرتا ہوں۔

I submit to the ruling of Allah and His Messenger and give precedence to the law of Allah over every opinion and desire.

We

نَحْنُ نَنْزِلُ عِنْدَ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ بِقَلْبٍ مُّطْمَئِنٍّ وَيَقِيْنٍ بِرَحْمَةِ اللَّهِ .

ہم اللہ کے قضا و قدر کے سامنے مطمئن دل اور اللہ کی رحمت پر یقین کے ساتھ جھکتے ہیں۔

We submit to Allah's decree and destiny with a tranquil heart and certainty in Allah's mercy.

You (m)

أَنْتَ تَنْزِلُ مَنَازِلَ الشُّكْرِ كُلَّمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ بِنِعْمَةٍ جَدِيدَةٍ .
تم شکر کے مقامات پر اترتے ہو جب بھی اللہ تم پر کوئی نئی نعمت عطا فرماتا ہے۔

You descend to stations of gratitude every time Allah bestows a new blessing upon you.

You (f)

أَنْتِ تَنْزِلِينَ مَنَازِلَ الْإِيْمَانِ بِالتَّقْوَى وَالْإِخْلَاصِ وَتَتَرَفَّعِينَ عَنِ الدُّنْيَا .

تم تقویٰ اور اخلاص سے ایمان کے مقامات پر قدم رکھتی ہو اور دنیا سے بلند ہوتی ہو۔

You descend the stations of faith through piety and sincerity and elevate yourself above the worldly life.

He

هُوَ يَنْزِلُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ.

ہمارا رب تبارک و تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانِ دنیا پر نزول فرماتا ہے۔

Our Lord — Blessed and Exalted — descends to the lowest heaven in the last third of the night.

She

هِيَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةَ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالْعِلْمِ فَتَغْشَاهَا وَتَحْفَهَا الْمَلَائِكَةُ.

رحمتِ ذکر اور علم کی مجلسوں پر نازل ہوتی ہے، انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔

Mercy descends upon the gatherings of remembrance and knowledge, enveloping them while the angels surround them.

They two

هُمَا يَنْزِلَانِ عِنْدَ حُكْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَيَجْعَلَانِهَا حَكْمًا بَيْنَهُمَا فِيمَا اخْتَلَفَا فِيهِ.

وہ دونوں کتاب اللہ اور سنت کے حکم کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنے اختلاف میں انہیں فیصلہ بناتے ہیں۔

They two submit to the ruling of the Book and the Sunnah and make them the arbiter between them in their disputes.

They (m)

هُمْ يَنْزِلُونَ عِنْدَ قَدْرِ اللَّهِ وَيَصْبِرُونَ عَلَى مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُمْ مُحْتَسِبِينَ.

وہ اللہ کے قدر کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کی تقسیم پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔

They submit to Allah's divine decree and patiently accept what Allah has apportioned for them, hoping for reward.

You all (m)

أَنْتُمْ تَنْزِلُونَ عِنْدَ الْحَقِّ وَتَرْفَعُونَ الدِّينَ فَوْقَ أَهْوَاءِ النُّفُوسِ وَشَهَوَاتِهَا.

تم سب حق کے سامنے جھکتے ہو اور نفسوں کی خواہشات اور شہوات پر دین کو بلند کرتے ہو۔

You all submit to the truth and elevate the religion above the desires and lusts of the soul.

They (f)

هُنَّ يَنْزِلْنَ عِنْدَ حُكْمِ اللَّهِ وَيُذْعَنَ لِشَرِيْعَتِهِ بِرِضًا وَقَبُولٍ تَامٍّ.

وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکتی ہیں اور اس کی شریعت کے سامنے مکمل رضا اور قبولیت کے ساتھ سر تسلیم خم کرتی ہیں۔

They submit to the ruling of Allah and yield to His law with complete acceptance and acquiescence.

VOCABULARY

المفردات

النُّزُولُ

اترنا / نزول

descending / coming down

الْمَنْزِلُ

منزل / گھر / اترنے کی جگہ

dwelling / station / place of alighting

التَّنْزِيلُ

تنزیل / نازل کرنا

revelation / sending down

الْوَحْيُ

وحی

divine revelation

الْقَدْرُ

تقدیر / قدر

divine decree / destiny

الرَّحْمَةُ

رحمت

mercy

السَّمَاءُ الدُّنْيَا

آسمانِ دنیا

the lowest heaven

الثُّلُثُ الْأَخِيرُ

رات کا آخری تہائی

last third of the night

الْمَلَائِكَةُ

فرشتے

the angels

السَّكِينَةُ

سکینت / اطمینان

tranquility / serenity

التَّسْلِيمُ

تسلیم / قبول کرنا

surrender / acceptance

الرِّضَا

رضا / خوشنودی

contentment / acceptance

الضَيْفُ
مِهْمَان

guest

الضِّيَافَةُ
مِهْمَانِ نَوَازِي

hospitality

الْإِذْعَانُ

اطَاعَتِ كَرْنَا / سَرَّ تَسْلِيمِ خَمَّ كَرْنَا

submission / compliance